

India's participation in the Intra-Afghan negotiations

September 12, 2020

انٹرا افغان مذاکرات میں ہندوستان کی شرکت

12 ستمبر، 2020

وزیر خارجہ (ای اے ایم) نے 12 ستمبر 2020 کو وی ٹی سی کے توسط سے دوحہ میں ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، عالی جناب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی طرف سے دیئے گئے دعوت نامے کے جواب میں وزیر خارجہ نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی۔

وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں، ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ہزار سالہ پرانے تعلقات کا حوالہ دیا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وقت کے امتحان کو برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے ایک بڑے ترقیاتی شراکت دار کی حیثیت سے ہندوستان کے کردار کو اجاگر کیا جس کے تحت افغانستان کے تمام 34 صوبوں میں 400 سے زیادہ منصوبے مکمل ہوئے ہیں۔

وزیر خارجہ نے بتایا کہ بھارت کی افغانستان کے بارے میں پالیسی ہمیشہ سے مستقل رہی ہے۔ ہندوستان کا خیال ہے کہ امن کے کسی بھی عمل کو افغان کے زیر قیادت، افغان کی ملکیت اور افغانستان کے زیر کنٹرول ہونا چاہئے، اسے افغانستان کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنا ہوگا اور افغانستان میں جمہوری اسلامی جمہوریہ کے قیام میں ہونے والی پیشرفت کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اقلیتوں، خواتین اور معاشرے کے کمزور طبقوں کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہئے اور ملک اور اس کے پڑوس میں تشدد کے مسئلے کو موثر انداز میں دور کرنا ہوگا۔

وزیر خارجہ نے انٹرا افغان مذاکرات کی کامیابی کے لئے نیک خواہش کا اظہار کیا تاکہ افغانستان کے عوام اس چیز کو حاصل کر سکیں جس کی انہیں بہت زمانے سے تمنا رہی ہے۔ اور وہ ہے ایک آزاد اور خود مختار ملک کے لئے ایک پر امن اور خوشحال مستقبل کا وجود۔

وزارت خارجہ میں جوائنٹ سکریریٹری (پی اے آئی) جناب جے پی سنگھ کی سربراہی میں ایک سینئر سرکاری وفد نے دوحہ میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔

نئی دہلی

12 ستمبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release